

منصب کے امور اور اہلیت

(Job Description & Qualification)

JOB/RBH/01

رابطہ برائے حکیم	شعبہ (Department)	پاکستان	کام کرنے کی جگہ (Workplace)
رکن شوریٰ	جوابدہ (Report to)	نگران مجلس	منصب (Designation)
شعبے کے تمام ذمہ داران	ماتحت اسٹاف (Subordinate Staff)	حکمت (طب) سے متعلقہ افراد میں نیکی کی دعوت عام کرنا اور انہیں دعوت اسلامی سے وابستہ کرنا۔	کام (Function)

منصب کے کام - Job Description

1. شعبے کے تمام کاموں کی نگرانی (Supervision) کرنا اور رکن شوریٰ کو مکمل معاونت (Help) و معلومات فراہم کرنا۔
2. شعبے کیلئے اہل، تجربہ کار، تنظیمی طور پر مضبوط مجلس بنانا، اہل ذمہ داران کا تقرر کرنا اور انکی موثر رہنمائی کے ذریعے ان سے کام لینا نیز تقرری کا ہر ماہ جائزہ لینا۔
3. جدول سو فٹ ویئر میں پیشگی و عملی جدول انٹر کرنا، ماتحتوں کے پیشگی جدول بنانے میں رہنمائی کرنا اور جدول چیک کرنا نیز پیشگی اطلاع کے ساتھ عمل کرنا کروانا۔
4. طے شدہ نظام کے مطابق مدنی مشورے کرنا اور مدنی مشوروں میں تیاری کیساتھ اول تا آخر شرکت کرنا نیز طے ہونے والے مدنی پھولوں کے اہداف مکمل کرنا کروانا۔
5. حکمت کے اداروں (نیشنل کونسل فار طب، طبیہ کالج، مطب، دوا ساز ادارے، دواخانے، پینسار سٹورز وغیرہ) سے منسلک شخصیات سے پیشگی وقت لے کر ان سے ملاقات کرنا۔
6. شعبے سے وابستہ بااثر افراد کے گھروں، دواخانوں اور دفاتر وغیرہ میں مدنی حلقے لگانا/ لگوانا۔
7. دعوت اسلامی کے اداروں میں شعبے کے طے شدہ مدنی پھولوں کے مطابق بااثر افراد (شخصیات) کی حاضری کروانا۔
8. شعبے سے وابستہ افراد اور ان کے بچوں کو فیضان آن لائن اکیڈمی، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دارالمدینہ اور فیضان اسلامک اسکول سسٹم میں داخل کروانا۔
9. مطب، دواخانے اور پینسار سٹور وغیرہ پر کتب و رسائل رکھوانا (مثلاً آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان مع تفسیر صراط الجنان، فیضان سنت، 40 روحانی علاج، مدنی پنج سورہ وغیرہ)۔
10. مدنی مراکز فیضان مدینہ میں اجیروں کے مفت طبی علاج کے لیے فری طبی کیمپ کی سہولت فراہم کرنا۔
11. حکماء کے شعبے کے افراد کو مدنی چینل (اردو، انگلش، عربی اور کڈز) کے سلسلوں کا تعارف کروانا اور دواخانوں/ پینسار سٹور/ گھروں میں مدنی چینل چلوانا۔
12. شعبے سے وابستہ (Connected) ذمہ داران کو 12 دینی کاموں، بڑی راتوں اور ایونٹس کے اجتماعات بالخصوص طے شدہ کورسز میں عملی طور پر شرکت کرنا کروانا۔
13. شعبے کے جملہ امور کی تکمیل و ترقی کے لیے پلاننگ (Planning) کرنا نیز اس کا شرعی و تنظیمی رہنمائی اور مشاورت کیساتھ نفاذ کرنا کروانا۔
14. اپنے متعلق فرض علوم اور شعبے کے ایس او پیز، جاب ڈسکرپشنز کا مطالعہ کرنا، کے پی آئی سبھنا/ سبھانا نیز تنظیمی معلومات و ایڈٹس سے آگاہ رہنا۔
15. اپنے ماتحت ذمہ داران کے ایچ آر (اجارہ) اور فنانس کے معاملات حل کرنا کروانا نیز شعبے کو ماہانہ کی بنیاد پر خود کفیل (Self sufficient) کرنے کی کوشش کرنا۔
16. فیڈ بیک اور جائزہ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ملنے والی شکایات/ تجاویز (Suggestions) اور مسائل کو حل (Solve) کرنا کروانا۔
17. شعبے سے متعلقہ تمام ریکارڈ ایڈیٹ رکھنا/ رکھوانا اور طے شدہ کارکردگیاں چیک کرنا نیز مینول (KPI's) سو فٹ ویئر میں درست اور بروقت انٹر کرنا کروانا۔
18. ای میلز، واٹس ایپ، کالز، میسجز چیک کرنا اور بروقت رپلائی کرنا۔
19. منصب کے مطابق نگران کی طرف سے ملنے والے کام بروقت مکمل کرنا کروانا۔

نوٹ:- اجیرا جہ وقت (Duty timing) کے دوران اجارے کے طے شدہ کام ہی کریں ان کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔

منصب کی اہلیت - Job specification

- دنیاوی تعلیم: بی ای ایم ایس (BEMS)
- متعلقہ ڈیپارٹمنٹ میں کم از کم 3 سال کا تجربہ نوٹ: مدنی کو ترجیح دی جائے گی
- People Management, Communication Skill, Adaptability & Flexibility, Leadership